

122819- حج یا عمرے میں حیض کا خون آنے کے خدشے سے احرام کھولنے کی شرط لگانا

سوال

سوال: ایک عورت عمرہ کرنا چاہتی ہے اور احتمال ہے کہ احرام باندھنے سے لیٹر طواف شروع ہونے سے پہلے تک ماہواری کا خون آجائے گا، تو کیا وہ عمرہ کرنے سے پہلے شرط لگا سکتی ہے؟ مبادا اپنے اہل خانہ کو واپسی میں تاخیر کا شکار نہ کرے؟

پسندیدہ جواب

اگر کوئی عورت عمرہ کرنا چاہے اور اسے عمرہ مکمل ہونے سے پہلے حیض کا خون جاری ہونے کا خدشہ ہو تو وہ شرط لگا سکتی ہے کہ اگر اسے حیض آگیا تو وہ احرام کھول دے گی، پھر اگر اسے حیض آجائے تو احرام کھولنے کی وجہ سے اس پر کچھ نہیں ہوگا۔

احرام باندھنے سے پہلے شرط لگانا اصولی طور پر جائز ہے، جیسے کہ صحیح بخاری: (5089) صحیح مسلم: (1207) میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ: "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضباعہ بنت زبیر کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا: (لنما ہے تم بھی حج کرنے جا رہی ہو؟) انہوں نے کہا: "اللہ کی قسم مجھے بہت درد اور تکلیف ہو رہی ہے" تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (حج کرو اور شرط لگا لو، اور شرط لگاتے ہوئے کہو: "اللَّهُمَّ عَلَيَّ حَيْثُ جَسْتَنِي" [یا اللہ! میں اسی جگہ احرام کھول دوں گی جہاں تو نے مجھے روک لیا])" لہذا اگر کسی شخص کو بیماری لاحق ہونے کا خدشہ ہو، یا کسی خاتون کو ماہواری آنے کا اندیشہ ہو تو وہ شرط لگا لے۔

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے حج میں شرط لگانے کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا کوئی مخصوص حالات ہی ہیں جن میں حاجی شرط لگا کر یہ کہہ سکتا ہے کہ: "إن جَسْتَنِي حَيْثُ جَسْتَنِي" [اگر میرے لیے کوئی رکاوٹ کھڑی ہوگئی تو میں اسی جگہ احرام کھول دوں گا جہاں تو نے مجھے روک لیا]؟ تو انہوں نے جواب دیا:

"حج میں شرط لگاتے ہوئے احرام باندھتے وقت یہ کہنا کہ: "إن جَسْتَنِي حَيْثُ جَسْتَنِي" یہ اسی وقت جائز ہوگا جب کسی بیماری یا کسی خاتون کو حیض آنے کا خدشہ ہو، یا انسان لیٹ ہونے کی وجہ سے حج فوت ہو جانے کا اندیشہ رکھے، تو ایسی حالت میں شرط لگا لینا چاہیے، لہذا اگر کوئی شخص شرط لگا لے اور حج یا عمرے کی تکمیل میں کوئی بھی رکاوٹ کھڑی ہو جائے تو وہ اپنا احرام کھول سکتا ہے اس پر کچھ بھی لازم نہیں آئے گا۔

لیکن اگر انسان کو کسی قسم کا کوئی خدشہ بھی نہ ہو تو سنت یہی ہے کہ شرط مت لگائے، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے احرام باندھے، اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھے "اننتی ماخوذاز: "لقاء الباب المفتوح" (25/18)

واللہ اعلم.